

- (iii) Stult and nonsense
- (iv) A wild goose chase
- (v) To be ill at ease
- (vi) Sit on the fence
- (vii) In a jiffy
- (viii) To preen oneself

Q.7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expression. (10)

پاکستان، افغانستان میں اس کے لیے خیر مزاج ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے اچھا حال ہے۔ یہ سچی بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کا حال ایک اور ہے۔
 افغانستان میں وہی بہبود و سہولت ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے خیر مزاج ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے اچھا حال ہے۔ یہ سچی بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کا حال ایک اور ہے۔
 اور دونوں ایک ایک رو بھی نہیں تھے۔ پاکستان کا موقف روز بروز بدلے گیا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے اچھا حال ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں اس کا حال ایک اور ہے۔
 ہے اس ضمن میں یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے خیر مزاج ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے اچھا حال ہے۔ یہ سچی بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کا حال ایک اور ہے۔
 وہی کے لیے افغانستان میں اس کے لیے خیر مزاج ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ افغانستان میں اس کے لیے اچھا حال ہے۔ یہ سچی بات ہے، لیکن پاکستان میں اس کا حال ایک اور ہے۔

2019 (Translation)

⇒ Pakistan is fully determined in establishing peace in Afghanistan because peace in Afghanistan is necessary for Pakistan.

Looking upon the historical perspective, Pakistan and Afghanistan are neighbouring brother Islamic country as well as combined with ~~releatio~~ relationships of historical, cultural and linguistic. This relationship is unbreakable, both of them depends on each other and

cannot live with each other. Since, day one, Pakistan's point of view always remain that political solution should be there on the

problems of Afghanistan. China also supports Pakistan point of view. In addition,

China says that Afghanistan's problems can only be solved from peace ^{negotiations} talks under the Afghan leadership. Pakistan and China

will play its role by ^{negotiations} talks to solve the Afghanistan issues on the partnership of strategic.